

**National Institute of Open Schooling**  
**Secondary Course- Persian**

**Lesson 18**  
**Worksheet-18**

**سوالنامہ: سیکنڈری کورس (فارسی 236)**

**درس ۱۸۔ حکایتی گلستان**

**سوال نمبر 1:** درج ذیل کا اردو، ہندی یا انگریزی میں ترجمہ کیجیے۔

آورده اند کہ نو شیر وان عادل را در شکار گھی، صید کباب کر دند و نمک نبود، غلامی بہ روستا رفت تا نمک آرد، نو شیر وان گفت: نمک بہ قیمت بستان تاریخی نشو دودہ خراب گردد، گفتند: ازاں قدر چہ خلل آید، گفت: بنیاد ظلم در جهان اول اند کی بودہ است، هر کہ آمد بروی مزیدی کر دہ تابدین غایت رسیدہ۔

**سوال نمبر 2:** درج ذیل غلط جملوں کی اصلاح کیجیے۔

(1) نو شیر وان گفتہم

(2) ده خراب گرددید

(3) تابدین غایت نرسیدہ

(4) نو شیر وان عادل بادشاہ ایران نبودی

**سوال نمبر 3:** شیخ سعدی شیرازی کے بارے میں پانچ جملہ لکھیے۔

**سوال نمبر 4:** درج ذیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پُر کیجیے۔

(1) صید کباب کر دندو..... نبود۔ (غلامی، نمک، شکار)

(2) غلامی بہ..... رفت۔ (ماہ، روستا، قیمت)

(3) ازاں قدر چہ..... آید۔ (خرابی، خلل، قیمت)

(4) بنیاد ظلم در..... اول اند کی بودہ است۔ (دہ، شہر، جهان)

سوال نمبر 5: درج ذیل شعر کا مطلب اردو، ہندی یا انگریزی میں لکھیے۔

اگر زبان غریب ملک خورد سبی

برا آور دن غلام ان او درخت از شخ

سوال نمبر 6: درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔

عادل، روستا، گفت، نبود